

## 34648- ایک شخص عذاب قبر کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ قبر کشتائی کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔

### سوال

ہم عذاب قبر کے منکر کو کیسے جواب دیں گے جو دلیل کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر قبر کشتائی کی جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ تو قبر تنگ ہوئی ہوتی ہے، اور نہ ہی قبر فراخ ہوئی ہوتی ہے؟

### پسندیدہ جواب

الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر کوئی شخص کہے کہ: قبر کشتائی کی جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ تو قبر تنگ ہوئی ہوتی ہے، اور نہ ہی قبر فراخ ہوئی ہوتی ہے؛ تو اس کے متعدد جواب دیئے جاسکتے ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں:

### اول:

عذاب قبر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا:

**﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ عَبْدَاتُ اللَّهِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ﴾**

ترجمہ: ان پر آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی [کہا جائے گا] آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ [غافر: 46]

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم [اپنے مردوں کو] دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کو میں سنتا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ "پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: (آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔) سب نے کہا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔) تو ہم سب نے کہا: ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔) اسے مسلم: (2867) نے روایت کیا ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں بتلایا کہ: (مومن کے لیے اس کی قبر تا حدنگاہ کھول دی جاتی ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (1374) اور مسلم: (2870) نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر نصوص ہیں۔

لہذا قرآن و سنت کی ان نصوص کی مخالفت کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ ان نصوص کو تسلیم کرنا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانا ضروری ہے۔

### دوم:

قبر میں عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، اور یہ بدن پر حسی طور پر ہوتا تو یہ ایمان بالغیب میں شامل نہ ہوتا، اور جسم پر عذاب کو دیکھ کر تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو عذاب قبر کو تسلیم کرنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب اسے غیبی امور سے سمجھا جائے، نیز برزخی معاملات کو دنیاوی طور پر لیتے سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

### سوم:

قبر میں عذاب اور راحت، وسعت اور تنگی کا احساس صرف میت کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا، اور اس کا ایک مظہر ہماری زندگی میں کئی بار آتا ہے کہ انسان کو اپنے بستر پر پڑے خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہے، جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، یا کسی کو مار پیٹ رہا ہے، یا کوئی اسے مار رہا ہے، خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ بہت ہی کوئی خوفناک جگہ ہے، یا بہت ہی وسیع اور کھلی جگہ میں ہے۔ لیکن اس سونے ہوئے شخص کے آس پاس افراد کو کسی قسم کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی طرح قبر کے عذاب کے متعلق ہے۔

تو انسان کو غیبی امور کے بارے میں سیدھا اور صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے سنا، اور ہم اطاعت گزار بن گئے، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق۔"

واللہ اعلم